



بلوچستان، ایک ابھرتی ہوئی طاقت

- بسم اللہ خان، تیمور خان، شہباز خان اور محمد اصغر پر مشتمل مقامی کھلاڑی
- بلوچستان کرکٹ ٹیم اپنے 4 میچز بگٹی اسٹیڈیم میں کھیلے گی

لاہور، 12 ستمبر 2019ء:

ڈومیسٹک کرکٹ سیزن 2019-20 میں بلوچستان کرکٹ ٹیم اپنا ابتدائی میچ سندھ کے خلاف کھیلے گی۔ 4 روزہ میچ 14 ستمبر کو یو بی ایل اسپورٹس کمپلیکس میں کھیلا جائے گا۔

ٹیسٹ کرکٹر حارث سہیل قائد اعظم ٹرافی میں بلوچستان کی قیادت کریں گے۔ مڈل آرڈر بیٹسمین کی فرسٹ کلاس کرکٹ میں رنز بنانے کی اوسط 50.14 سے زائد ہے۔ حارث سہیل گذشتہ سال نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے خلاف 5 ٹیسٹ میچز میں 2 سنچریاں اسکور کر چکے ہیں۔

قومی ٹیسٹ کرکٹر امام الحق بھی بلوچستان کرکٹ ٹیم کا حصہ ہیں۔

کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے وکٹ کیپر بلے باز بسم اللہ خان قائد اعظم ٹرافی کے آئندہ سیزن میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کر کے ایچ بی ایل پی ایس ایل کی ڈرافٹنگ کے لیے اپنی جگہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ 29 سالہ کرکٹر ایچ بی ایل پی ایس ایل کے ابتدائی ایڈیشن میں کوئٹہ گلاڈیئٹرز کی نمائندگی کر چکے ہیں۔ فرسٹ الیون میں شامل دیگر مقامی کھلاڑیوں میں دائیں ہاتھ کے بلے باز تیمور خان، بائیں ہاتھ سے بلے بازی کرنے والے شہباز خان اور اسپنر محمد اصغر کے نام شامل ہیں۔

22 سالہ حسین طلعت اور عماد بٹ بطور آل راؤنڈرز بلوچستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔

ٹومیسٹک کرکٹ کے نامور باؤلر تاج ولی آئندہ سیزن میں بلوچستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ اسکوآڈ میں شامل 35 سالہ عمر گل کی بطور سینئر کھلاڑی اسکوآڈ میں موجودگی جونینرز کی رہنمائی کرے گی۔

قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کے تجربہ کار باؤلر یاسر شاہ بلوچستان کرکٹ ٹیم کے اسپن ڈیپارٹمنٹ کی کمان سنبھالیں گے۔

مقامی کھلاڑیوں کی طویل دورانیئے کی ٹومیسٹک کرکٹ میں شمولیت کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں 11 سال بعد فرسٹ کلاس میچز کا انعقاد خطے میں کھیل کے فروغ کا سبب بنے گا۔

ایونٹ کے دوسرے راؤنڈ میں بلوچستان کرکٹ ٹیم سدرن پنجاب کی میزبانی کرے گی۔ بلوچستان کرکٹ ٹیم ایونٹ کے 4 میچز کی میزبانی بگٹی کرکٹ اسٹیڈیم میں کرے گی۔ 32 رکنی اسکوآڈ میں 44 فیصد نمائندگی مقامی کھلاڑیوں کو دی گئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ آئندہ ٹومیسٹک سیزن میں بلوچستان کرکٹ ٹیم میں مقامی کھلاڑیوں کی نمائندگی کی شرح بڑھانے کا عزم رکھتا ہے۔

حارث سہیل، کپتان بلوچستان:

کپتان حارث سہیل کا کہنا ہے کہ وہ آئندہ ٹومیسٹک سیزن میں بلوچستان کرکٹ ٹیم کی کپتانی کے لیے پرجوش ہیں۔ انہیں امید ہے کہ ایونٹ میں بہترین مقابلے دیکھنے کو ملیں گے۔

حارث سہیل نے کہا کہ قومی کرکٹرز کی فرسٹ کلاس کرکٹ ٹورنامنٹ میں شرکت ایونٹ کو چار چاند لگائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری ٹیم متوازی ہے۔ ہمارے پاس باؤلنگ میں تاج ولی اور عمر گل جبکہ بیٹنگ میں عمران فرحت کی صورت میں تجربہ کار کھلاڑی موجود ہیں۔

حارث سہیل نے کہا کہ عماد بٹ اور حسین طلعت کی صورت میں 2 بہترین آلراؤنڈرز ہمارے پاس موجود ہیں بطور کپتان میں اسکوآڈ کے انتخاب پر اطمینان کا اظہار کرتا ہوں۔

بلوچستان کرکٹ ٹیم کے کپتان کا کہنا ہے کہ ٹیم میں موجود سینئر کھلاڑیوں کی موجودگی مقامی کھلاڑیوں کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔

بلوچستان سیکنڈ الیون:

بلوچستان کرکٹ ٹیم کی سیکنڈ الیون کی قیادت آراؤنڈر اکبر رحمن کریں گے۔ آراؤنڈر اب تک 95 فرسٹ کلاس میچز کھیل چکے ہیں۔

3 روزہ انڈر 16 کرکٹ ٹورنامنٹ کے گذشتہ 4 ایڈیشنز کے تیسرے بہترین بلے باز نوجوان اسامہ رزاق سیکنڈ الیون ٹورنامنٹ میں بلوچستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔ قومی انڈر 19 کرکٹر اختر شاہ بھی اسکوآڈ میں شامل ہیں۔

ایچ بی ایل پی ایس ایل میں لاہور قلندرز کی جانب سے وکٹ کیپنگ کے فرائض انجام دینے والے گلریز صدف ٹیم کی نمائندگی کریں گے۔

33 سالہ اسپنر جلات خان اور بلے باز فہد خان کا وسیع تجربہ مقامی کھلاڑیوں کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔

سیکنڈ الیون کرکٹ ٹورنامنٹ میں بلوچستان اور سندھ کے درمیان مقابلہ 14 ستمبر کو نیشنل بنک اسٹیڈیم کراچی میں ہوگا۔

– ENDS –

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk